

ازواجِ مطہراتؓ کا اسلوبِ دعوت

نصیر خان

صحابہؓ اور صحابیاتؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہِ راست تربیت یافتہ اور اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ ان میں بھی ازواجِ مطہراتؓ کو قربتِ نبوی کی وجہ سے خصوصی فضیلت حاصل ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اقامتِ دین کے لیے بے مثل جدوجہد کے انعام میں رضی اللہ عنہم درضوعنہ کے شرف سے نوازا۔ ہمیں جہاں اپنے تزکیہ و تربیت اور اصلاحِ معاشرہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور آپ کی سیرت سے روشنی درکار ہے وہاں ان صاحبِ عزیمت ہستیوں کی روشن زندگیوں سے بھی حرارتِ مطلوب ہے جنہوں نے دین کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں پیش کیں اور اسے دنیا میں پھیلانے کے لیے بہترین اور ہمہ جہت کوششیں کیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ داعیِ دعوت کے امکانات کو پہچان کر موقعِ محل کے لحاظ سے ان کا استعمال کریں۔ زیرِ نظر مضمون میں ازواجِ مطہراتؓ کی زندگیوں سے ایسے ہی موتی چنے کی کوشش کی گئی ہے۔

○ اپنے عمل سے منکرات کو ختم کرنے کی مثال: صحابیاتؓ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ اتنا غالب تھا کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی خواہش، محبت یا جذبہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ غم کا موقع ہوتا یا خوشی کا، وہ اپنے عمل سے سنت کی پیروی کا درس دیتی تھیں۔ جب شام سے حضرت ام حبیبہؓ کے والد حضرت ابوسفیانؓ کی وفات کی خبر آئی تو تین دن کے بعد آپؓ نے خوشبو منگوا کر لگائی، پھر فرمایا: مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتی ہو، کہ اپنی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے شوہر کے، جس کا سوگ چار مہینے دس دن ہے۔ (بخاری، ترمذی، ابوداؤد)

اسی طرح جب حضرت زینبؓ بنت جحش کا بھائی فوت ہو گیا تو (تین دن کے بعد) آپ نے خوشبو منگوائی اور لگا کر درج بالا حدیث بیان کی۔ اس طرح ان دو جلیل القدر ہستیوں نے پہلے اپنے عمل سے پھر قول سے ایک بُری رسم کی اصلاح کی۔

○ عوام الناس کے قلوب کی اصلاح: حضرت صفیہؓ تلاوت قرآن کے ساتھ رونے کی تاکید کرتی تھیں تاکہ علم کے ساتھ بھرپور روحانی فیض بھی حاصل ہو۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کے حجرے میں جمع ہو گئے۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو ان کو آواز دے کر کہا: ”یہ سجدے اور تلاوت قرآن تو کر رہے ہو لیکن تمہیں رونا کیوں نہیں آتا؟“ (حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء)۔ مراد اس بات کی تعلیم تھی کہ عبادات کے ظاہری مراسم روح سے خالی نہیں ہونے چاہئیں۔ جب بات دل میں اترتی ہے تو تب ہی رونا نصیب ہوتا ہے اور عملی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے۔

○ مزاج نبوت سے واقفیت: حضرت زینبؓ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور مزاج سے بخوبی آگاہی حاصل تھی اور مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس کا بھرپور طریقے سے استعمال کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ عبدالمطلب بن ربیعہؓ اور فضل بن عباسؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ان کو بھی عامل مقرر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست سن کر کچھ زیادہ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ چونکہ آپ کو مزاج نبوت سے بخوبی واقفیت حاصل تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کو سمجھ گئیں اور پردے کے پیچھے سے اشارتا منع کیا کہ اس کے بارے میں بات چیت نہ کریں (عامل بننے کی درخواست نہ کریں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مطالبے کو ناپسند کرتے ہیں)۔ (مسلم، سنن ابوداؤد)

○ خسواتین کی اصلاح: حضرت عائشہؓ اعمیاء مزاج کی مالک تھیں۔ آپ کا رویہ برائیوں کے ساتھ مصالحتانہ نہیں بلکہ ان کو جڑ سے اکھاڑنے کا تھا۔ آپ اس میں کسی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کرتی تھیں، برائی جس میں بھی دیکھتیں تو فوراً اس کو ٹوکتیں اور اصلاح کرتی تھیں۔ ایک دن آپ، حضرت صفیہؓ ام طلحہ کے پاس آئیں اور دیکھا کہ ان کی بیٹیاں بغیر چادر کے نماز پڑھ رہی ہیں، حالانکہ وہ بالغ ہو چکی تھیں تو فرمایا: ”ان میں سے کوئی بغیر چادر کے نماز نہ پڑھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے۔ میرے پاس ایک لڑکی تھی (اور اس کے سر پر چادر نہیں تھی)۔ آپ نے مجھے اپنی تہمدی اور کہا کہ اس کو پھاڑ کر دو گلڑے کر کے ایک گلڑا اس کو اور ایک ام سلمہؓ کی گود میں جوڑ کی ہے اس کو دے دو، کیونکہ میرے خیال میں وہ بالغ ہو چکی ہیں۔ (مسند احمد، سنن ابوداؤد)

ایک دفعہ آپؐ کی بیٹی حفصہ بنت عبدالرحمن آپؐ کے پاس آئی۔ اس نے باریک اوڑھنی پہن رکھی تھی جس سے اس کا جسم جھلک رہا تھا۔ آپؐ نے اس سے وہ اوڑھنی لے کر پھاڑ ڈالی اور تذکیر بالقرآن کرتے ہوئے فرمایا: ”کیا تم نے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام نہیں پڑھے ہیں؟“ پھر اس کو ایک موٹی اوڑھنی منگوا کر

دے دی۔ (موطا)

ایک مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا کہ چادر میں صلیب لگائی ہوئی ہے تو فوراً منع کرتے ہوئے فرمایا: ”اپنے کپڑوں سے اس کو اتار دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قسم کی چیزیں کپڑوں میں دیکھتے تو توڑ دیتے تھے“۔ (مسند احمد)

ایک خاتون نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے شفا دے تو وہ بیت المقدس جا کر نماز پڑھے گی۔ صحت یاب ہونے کے بعد اس نے سفر کی تیاری کی اور جانے سے پہلے حضرت میمونہؓ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئیں تو آپؓ نے اس کو کہا: ”تم یہاں بیٹھو اور جو کھانا میں بناؤں اسے کھاؤ اور مسجد نبویؐ میں نماز پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس میں ایک نماز پڑھنا اس کے علاوہ کسی مسجد میں ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے“۔ (مسند احمد)

ایک مرتبہ کچھ عورتیں حاضر خدمت ہوئیں تو آپؐ نے ان کو ہدایت کی کہ مجھے مردوں کو ٹوکتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے اپنے شوہروں کو آگاہ کرو کہ پانی سے طہارت حاصل کیا کریں کیونکہ یہی مسنون طریقہ ہے۔ (مسند احمد)

○ زیر اثر لوگوں کی اصلاح: حضرت عائشہؓ کے مکان میں ایک کرایہ دار رہتا تھا۔ اس کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ نزدیکیا ہے، سخت برا فروختہ ہوئیں اور کہا بھیجا کہ کہ نزدیکی گوئیوں کو میرے گھر سے باہر نہ پھینک دو گے تو میں تمہیں اپنے گھر سے نکلا دوں گی۔ (بخاری)

اپنے زیر اثر لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے اختیارات کے استعمال کے ذریعے تنبیہ بھی اکثر سود مند ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ کہ معاشرے میں لوگ مختلف ذہنی اور نفسیاتی کیفیات کے حامل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو سیدھی سادی دعوت سے راہ راست پر آجاتے ہیں جب کہ کچھ لوگوں کو سزا کا خوف دلا کر ہی برائیوں سے روکا جاسکتا ہے۔

ایک بار حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کو دیکھا کہ وضو اچھی طرح نہیں کیا تو فوراً تنبیہ فرمائی: اے عبدالرحمن! کامل طریقے پر وضو کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ شخصوں کے لیے آگ ہے (اگر وہ وضو میں خشک رہ جائیں)۔ (مسند احمد)

ایک مرتبہ حضرت ابوسلمہؓ کی اپنے قبیلے والوں کے ساتھ زمین کے بارے میں لڑائی ہوگئی۔ جب وہ حضرت عائشہؓ کے پاس آئے تو آپؓ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: ابوسلمہ! زمین سے بچو، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جس نے ایک باشت بھر زمین ظلم سے حاصل کی قیامت کے دن ساتوں

زمینوں سے اس زمین کے کلڑے کے برابر اس آدمی کے گلے میں بطور سزا طوق بنا کر ڈالی جائے گی۔
(مسلم، بخاری، مسند احمد)

حضرت اُم سلمہؓ کی عادت تھی کہ اپنے حلقہ اثر میں جب بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے طریقوں سے ہٹ کر دیکھتیں، تو فوراً نوک دیتی تھیں۔

ایک دفعہ آپؓ کا بھتیجا آپ کے ہاں آیا اور مکان میں دو رکعت نماز پڑھی۔ جب سجدے کے لیے جانے لگا تو مٹی کو ہٹانے کے لیے پھونک ماری۔ آپؓ نے دیکھا تو اس کو تنبیہ کر کے فرمایا: پھونک نہ مارو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رنامی ایک لڑکے کو جس نے سجدے میں پھونک ماری تھی، فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاک آلود کرو۔ (مسند احمد)

ایک موقع پر جب سلمہ بن ہشام کو جماعت میں غیر حاضر پایا تو ان کی بیوی سے دریافت کیا: کیا وجہ ہے میں سلمہ کو نماز باجماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ حاضر ہوتے نہیں دیکھتی؟ اس کی بیوی نے بتایا کہ چونکہ وہ جنگ موتہ میں نہیں گئے تھے اس لیے لوگوں کے عار دلانے کی وجہ سے وہ گھر سے نہیں نکلتے۔ (ابن ہشام)

اُم الحسینؓ فرماتی ہیں کہ میں حضرت اُم سلمہؓ کے پاس تھی کہ کچھ مساکین آئے جن میں عورتیں بھی تھیں۔ انھوں نے سوال کیا تو میں نے کہا: یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت اُم سلمہؓ نے سنا تو فوراً تنبیہ کی: ”ہمیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو اور کچھ نہیں تو ایک کھجور ہی دے کر واپس کرو۔“ (الادب المفرد)

نماز دین کا ستون ہے اور مسنون اوقات کا التزام اس کی اقامت میں شامل ہے۔ جب دیکھا کہ امرائے نماز کے مسنون اوقات کا خیال نہیں رکھتے تو ان پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر تم لوگوں سے جلد پڑھا کرتے تھے اور تم لوگ نماز عصر آپؐ سے جلد پڑھتے ہو! (ترمذی، مسند احمد)

ازواج مطہراتؓ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کسی رشتے ناتے کا کوئی لحاظ نہیں کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت میمونہؓ کے پاس ان کا کوئی رشتے دار اس حالت میں آیا کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ جب آپؓ نے دیکھا تو جھڑک کر فرمایا: تم مسلمانوں کے پاس کیوں نہیں جاتے تاکہ وہ تمہیں کوڑے لگا کر پاک کر دیں؟ تم آئندہ میرے گھر میں کبھی نہ آنا۔ (الطبقات الکبریٰ)

○ حاکم وقت کو نصیحت: حکام کے سامنے سیدھی اور دو نوک بات کہنے کے لیے بڑی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ کام جتنا مشکل ہے اتنا ہی زیادہ باعث اجر و فضیلت ہے۔ حضرت عائشہؓ کو صحبت

نبوی کی وجہ سے یہ فضیلت بھی بدرجہ کمال حاصل تھی۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہؓ نے درخواست کی کہ آپؐ ان کو ایک مختصر اور فصیح آموز خط لکھیں تو آپؐ نے ان کو لکھا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کی ناراضی مول لے کر اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی تکالیف سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ان کے سپرد کر دے گا۔ (ترمذی)

ایک حاکم وقت کے لیے اس خط میں اختصار کے ساتھ جامعیت، موزونیت اور جرأت مثالی ہے۔ حضرت معاویہؓ کو ایک دوسرے خط میں آپؐ نے لکھا: جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے اعمال کرے گا وہ اس کی تعریف کرنے والوں کو اس کی مذمت کرنے والا بنا دے گا۔

جب زیاد نے حضرت حجر بن عدی کو بغاوت کے الزام میں حضرت معاویہؓ کے دربار میں پیش کیا (کیونکہ وہ امر کے ظلم و ستم پر تکبیر فرماتے تھے) تو حضرت معاویہؓ نے ان کو قتل کرایا۔ جب حضرت عائشہؓ حضرت معاویہؓ سے ملیں تو ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈراتے ہوئے فرمایا: اے معاویہؓ! کیا تمہیں حجر بن عدیؓ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے۔

○ مدعو کئے فہم و فراست کو اپیل کرنا: حضرت ام حبیبہؓ سردار قریش ابوسفیان کی بیٹی تھیں۔ وہ باوجود قیادت اور سیادت کے فتح مکہ تک اسلام کے خلاف ہر محاذ پر سرگرم رہا۔ فتح مکہ سے پہلے جب وہ مدینہ آیا ہوا تھا تو حضرت ام حبیبہؓ نے دوران گفتگو اس کی عقل و دانش سے اپیل کرتے ہوئے کہا: میرے ابا! اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت سے نوازا ہے اور آپ قریش کے سردار اور بزرگ ہو کر کیونکر اسلام سے محروم رہ گئے ہیں۔ آپ پھر کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے۔ مراد یہ تھی کہ یہ ایک سردار کی عقل و دانش سے قطعاً میل نہیں کھاتا۔ چنانچہ ابوسفیان نے یہ سن کر کہا: تم بھی عجیب بات کر رہی ہو، کیا میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کر لوں؟ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن تھوڑے عرصے بعد اسلام قبول کر لیا (تاریخ مدینہ)۔ بعید نہیں کہ اس کے قبول اسلام کا ایک محرک یہ گفتگو بھی ہو۔

صحابیات کی دعوتی زندگی کو دیکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان کی خدمات زندگی کے تمام پہلوؤں پر مشتمل ہیں۔ انھوں نے گھر یا معاشرے میں جہاں بھی کوئی کوتاہی دیکھی اس کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی اور موقع محل اور مخاطب کا بھی خیال رکھا۔ انھوں نے انذار و تبشیر دونوں سے کام لیا اور ہمیشہ امید کا دامن تھامے رکھا۔ دعوت دین کا کام کرنے والے افراد کی کامیابی اسی کا اتباع کرنے میں مضمر ہے۔

ماہنامہ ترجمان القرآن نومبر ۲۰۰۷ء